

مدنی بہاروں کی نیتیں

☆ مدنی بہاریں چونکہ نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہیں اپنی مدنی بہار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کروں گا۔ ☆ اپنے سابقہ گناہوں (جن سے سخی توبہ ہو چکی ہو ان) کا تذکرہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کی عبرت اور گناہوں سے نفرت اور توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے ذکر کروں گا ☆ اپنے اندر آنے والی تبدیلی بیان کر کے دوسروں کی ترغیب و تحریص کا سامان اور اچھے ماحول (جو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایک نعمت ہے) کی برکتوں کا پرچار کروں گا ☆ اپنے اندر آنے والی تبدیلی کے زائل ہونے کے خوف اور ربِّ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر پر نظر کرتے ہوئے شہرت اور حبِ جاہ سے بچنے ہوئے نیکوں کا تذکرہ صرف تحدیثِ نعمت کے لیے کروں گا ☆ مدنی بہار کے ذریعے دعوتِ اسلامی کے جملہ مدنی کاموں (مثلاً! مدنی چینل، مدنی مذاکرہ، مدنی قافلہ، درسِ فیضانِ سنت، سنتوں بھرے اصلاحی بیانات وغیرہ) کی ترغیب کا سامان کروں گا ☆ مدنی بہار لکھنے کی احتیاطوں پر عمل کروں گا۔ (مدنی بہاریں لکھنا اور لکھوانا ایک اہم کام ہے، لہذا اس میں بہت سی باتوں کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے ورنہ بے احتیاطی کی صورت میں گناہ میں پڑنے اور جھوٹ کی آفت میں پھنسنے کا قوی اندیشہ ہے لہذا چند احتیاطی تدابیر ذکر کی جاتی ہیں۔)

مدنی بہاروں کی احتیاطیں

☆ اپنے سابقہ گناہوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا (مثلاً: مفتے میں ایک آدھ فلم دیکھنے والے کا یہ کہنا کہ جب تک میں فلم نہ دیکھتا تھا مجھے نیند نہیں آتی تھی) ☆ کسی فردِ متین جیسے ماں، باپ، بھائی، بہن وغیرہ کی غیبت کرنا (مثلاً: اس طرح بیان نہ کرے کہ میرا باپ مجھے مارتا تھا، ماں گالیاں دیتی تھی بلکہ یوں کہے کہ بعض گھر والے سختیاں کرتے تھے یا والد صاحب شروع شروع میں تو سختیاں کرتے تھے مگر جب ان کو دعوتِ اسلامی کا ماحول سمجھ آ گیا تو سختیاں کرنا بند کر دیا) ☆ کسی پر الزام تراشیاں کرنا، اپنے گھر کیلئے مسائل بلا وجہ بیان کرنا، غیر ضروری چیزوں میں چاڑھنا وغیرہ سے بچنا ☆ ایسے طریقے یا گناہ جو کسی کی ترغیب کا سبب بن سکتے ہوں انہیں بیان کرنے سے حتی المقدور بچنا مثلاً: اس طرح بیان نہ کرے کہ میں فلاں گلوکار کے گانے بہت شوق سے سنتا تھا، اس کی آواز میں ایسا جاوے کہ میں رو پڑتا تھا۔ عشق کی راہ میں اتنا آگے نکل گیا کہ نشہ شروع کر دیا جس سے مجھے سکون ملتا تھا یا میں فلاں سنیئر گایاں فلموں کی سی ڈیز بہت سستی مٹی ہیں یا فلاں گلی کے کونے پر شراب خانہ ہے اس کے سامنے ایکسٹنٹ میں ایک شخص جان سے ہاتھ دھو بیٹھا وغیرہ ☆ ایسے الفاظ بیان کرنے سے مکمل پرہیز کیجئے جنہیں فیملی میں استعمال نہیں کیا جاسکتا مثلاً: زنا، لواطت وغیرہ بلکہ ان کی جگہ گندے کاموں میں مبتلا تھا، اخلاقی برائیوں میں ملوث تھا وغیرہ الفاظ استعمال کیے جائیں ☆ اپنی نیکیوں میں بے جابالغہ یا کسی فرد کے مقابلے میں اپنی فوقیت ظاہر کرنے یا خود اپنی تعریف بلا کسی صحیح نیت کے کرنے سے بچنا ضروری ہے بلکہ اپنی مثبت تبدیلی کو ذاتی کمال سمجھنے کے بجائے مددِ الٰہی کو کار فرما سمجھنے نیز بہت کچھ پانے اور کثیر خدمت دین بجالانے کے باوجود خوفِ خدا رکھتے ہوئے ان اعمالِ صالحہ کی قبولیت کی دعا کیجئے اور بہر صورت عاجزی و انکساری کا دامن تھامے رہیے اور جو مقام و مرتبہ اور اسلامی منصب و ذمہ داری یا کسی نعمتِ خداوندی کو بیان کریں تو تحدیثِ نعمت کی نیت پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا ذکر کیجئے تاکہ ریاکاری اور حُبِ جاہ کی تباہ کاری سے حفاظت ہو سکے۔

نیچے تفصیلاً ضرورتاً پیچھے تحریر فرما

دیجئے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ آمَنَّا بَعْدَ قَاعُوذٍ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

غور سے پڑھ کر مدنی بہار فارم کر کے

تفصیل لکھ دیجئے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے آپ کو مدنی ماحول میسر آیا، اس کی بدولت نماز، نوافل، روزہ اور مدنی حلیہ سے آراستہ ہوئے، دعوتِ اسلامی کے کسی بھی شعبے سے آپ کو برکت حاصل ہوئی، بین الاقوامی شہرت یافتہ کتابِ فیضانِ سنت یا امیرِ اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوالیاس محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے کتب و رسائل پڑھ کر، بیان یا کیسٹ سُن کر یا ان کی ملاقات کی وجہ سے یا "VCD" و مدنی چینل دیکھ کر، سنتوں بھرے اجتماعات، (ہفتہ وار/صوبائی/بین الاقوامی) یا اجتماعِ ذکر و نعت (بڑی گیارہویں شریف، اجتماعِ میلاد، شبِ معراج، شبِ برأت، شبِ قدر) یا اجتماعِ اہل سنت (10 یا 30 روزہ) میں شرکت و مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے یا مدنی قافلوں میں سفر یا دعوتِ اسلامی کے کسی بھی مدنی کام (انفرادی/کوشش، درسِ فیضانِ سنت، علاقائی دورہ، مدرسہ المدینہ بالفان وغیرہ) سے متاثر ہو کر مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا، نمازی بن گئے، واڑھی، عمامہ وغیرہ سج گیا، آپ کو یا کسی عزیز کو حیرت انگیز طور پر صحت ملی، پریشانی دور ہوئی، یا مرتے وقت کلہرِ طیبہ نصیب ہوا یا اچھی حالت میں رُوحِ قبض ہوئی، مرحوم کو اچھی حالت میں خواب میں دیکھا، بشارت وغیرہ ہوئی یا تعویذ و عطار کے ذریعے آفات و بلیات سے نجات ملی یا سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطار یہ یا اس کے شجرے سے کوئی برکت حاصل ہوئی تو (دوسروں کی ترغیب کی نیت سے) یہ فارم پُر فرمائیں۔

نام مع ولدیت: _____ عمر: _____ کن سے مرید یا طالب

ہیں: _____

خط ملنے کا پتہ _____

مندرجہ بالا ذرا لُح سے حاصل ہونے والی برکتوں سے جو فلاں فلاں برائیاں (مثلاً: عیشِ ہستی، رمضان کے رونے نہ رکھنا، نمازیں قضاء کرنا، جھوٹ غیبت وغیرہ) چھوٹیں وہ (دوسروں کے لیے عبرت کی نیت سے) مبہم انداز میں مختصراً لکھیں اور امیرِ اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذاتِ مبارکہ سے ظاہر ہونے والی برکات و کمالات کے ایمانِ فروز و واقعات مقام و تاریخ کے ساتھ تحریر فرما کر اس پتے "المدينة العلمیہ الشعبہ مدنی بہاریں عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ محلہ سوداگران، پُرانی سبزی منڈی (باب المدینہ) کراچی پر بھجوا کر یا madani.baharain@dawateislami.net پر میل فرما کر احسان فرمائیے۔

(مدنی انقلاب برپا ہونے وقت کی کیفیت ضرور لکھنے اور اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ جھوٹی بات یا جھوٹا مبالغہ نہ ہونے پائے کہ جھوٹ ناجائز و گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے)۔ بِن پُرا تو آپ کی مدنی بہار کو ہم نوک پلک سنوار کر ہم دوسروں کو بیان کریں گے، ممکن ہے آپ کی مدنی بہار دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان ہو۔ دعوتِ اسلامی کے مدنی مقصد "مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے" کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی بہار لکھ کر جمع کروائیے اور دو جہاں کی بھلائیاں کا اپنے آپ کو حقدار بنائیے۔ آپ کی رہنمائی کے لیے ذیل میں کچھ نیتیں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ ثواب کا عظیم ذخیرہ حصے میں آسکے۔
